

اکائی IV

سن بلوغ (Adulthood)

سن بلوغ آنے پر نو بالغ بچے حقیقی دنیا (Real world) میں قدم رکھتے ہیں۔ اب وہ اعلیٰ تعلیم، کام، شادی پیاہ وغیرہ کی ایک دنیا میں داخل ہوتے ہیں اور انھیں خود اپنا کنبہ قائم کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح فرد کی ذمے داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ اس اکائی میں آپ ان اہم عوامل کا مطالعہ کریں گے جو کسی بالغ فرد کی زندگی کا معیار متعین کرنے میں موثر کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ عوامل ہیں صحت، سلامتی (Wellness)، مالی منصوبہ، بندی اور انتظام (Management)، گھر اور گھر سے باہر مختلف مواقع پر پہنچنے والے لباسوں اور کپڑوں کی دیکھ رکھو اور مختلف موقعوں کے لحاظ سے اپنی بات کہنے یا بات چیت کرنے کی صلاحیت۔ یہ اکائی محض اپنی ذات پر نہیں بلکہ خاندان، گھر والوں اور سماج سے متعلق انفرادی فرائض اور حقوق کے باب پر ختم ہوتی ہے۔

باب 15

صحت اور سلامتی

(Health and Wellness)

آموزشی مقاصد

اس باب کے مطالعے کے بعد طلباء:

- صحت اور تنفسی کی اہمیت سمجھ سکیں گے۔
- بالغ لوگوں کی صحت سے متعلق مسائل اور چیلنجوں کی وضاحت کر سکیں گے۔
- سلامتی کے تصور کو بیان کر سکیں گے۔
- بالغ لوگوں کی اچھی صحت اور سلامتی کو فروغ دینے اور نگہداشت کرنے کے لیے ضروری اقدامات کا بیان کر سکیں گے۔

15.1 ہندوستان میں صحت کا منظر نامہ (Health Scenario in India)

ہندوستان کے لوگوں کی صحت کے خاکے پر ایک سرسرا نظر ڈالنے سے ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں بہتری لانے کی بہت ضرورت ہے۔ عالمی صحت تنظیم (WHO) کی رپورٹ 2008 کے مطابق درج ذیل تفصیلات حاصل ہوتی ہیں:

مجموع آبادی 1,151,751,000

پیدائش کے وقت متوقع عمر: مردوں کے لیے 62 سال، عورتوں کے لیے 64 سال

پیدائش کے وقت صحت مندرجہ کی متوقع عمر: مردوں کے لیے 53 سال اور عورتوں کے لیے 54 سال

پانچ سال سے کم عمر میں موت کا امکان (نی ہزار پیدائشوں میں) : 76

15 سے 60 سال کے درمیان موت کا امکان (نی ہزار لوگ) 276 مردوں میں / 203 عورتوں میں۔

مأخذ: عالمی صحت اعداد و شمار برائے سال 2008

ہندوستان کی آبادی کی صحت کے بارے میں کچھ اور اشارے امراض چشم: اندھے پن کے 80 فیصد واقعات کا سبب بنے والے موتیاند (Cataract) کے ہر سال 3.8 ملین معاملات سامنے آتے ہیں۔ کینسر: 2001 میں کینسر کے مریضوں کی مجموعی تعداد انداز 924,790 تھی۔ اس تعداد کے 2011 تک 1,229,968 اور 2021 تک 1,557,800 ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ امراض قلب (Cardiovascular Diseases): دل کا دورہ پڑنے اور دل کی دیگر بیماریوں سے 1990 میں انداز 204 ملین متین ہوئیں۔ شہر کاری (Urbanisation) کے نتیجے میں اس بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ملیریا: ملیریا کے معاملات 2001 میں 2.03 ملین تھے لیکن 2021 میں ان کے 2.62 ملین ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہائپر ٹینشن (Hypertension): ذیابیطس اور گردوں کی بیماریاں: ہائپر ٹینشن، طریز زندگی سے متعلق بیماریاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ ہندوستان میں ذیابیطس سے متاثر افراد کی تعداد 2001 میں 40 ملین تھی جو 2010 میں 47 ملین ہو سکتی ہے۔ ہائپر ٹینشن سے متاثر لوگ دیہات اور شہروں میں زیادہ ہیں۔

ماخذ: انویسٹمینٹ انفار میشن اینڈ کریڈٹ ریلنگ اجنسی (ICRA)۔ روپرٹ آن انڈرین ہیلتھ کیر اینڈ ٹکنا لو جی انفار میشن فار کا سٹنگ اینڈ اسیسمنٹ کوسل (TIFAC)، ڈپارٹمنٹ آف سائنس اینڈ ٹکنا لو جی (DST)، گورنمنٹ آف انڈیا

ہندوستان میں صحت سے متعلق یہ چونکا دینے والے اعداد و شمار اور پھر یہ پیش گوئی 2025 تک ہر 5 ہندوستانیوں میں ایک شخص ذیابیطس کا مریض ہو سکتا ہے اس بات کا مقاضی ہے کہ ہر ہندوستانی اپنی صحت اور جسمانی درستی کے بارے میں باخبر ہو۔ ذیابیطس کے علاوہ، دل کے امراض، ہڈی کی کمزوری (Osteoporosis) متعدد اور چھوٹ سے لگنے والی بیماریاں (جیسے پہنچانی، ٹی بی اور ایڈس وغیرہ) عمومی صحت کے اہم مسائل ہیں جن سے بچاؤ کے لیے زندگی کے ہر مرحلے پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ وابی اور اچھوٹ کی بیماریوں سے ہونے والی موت کی صورت حال میں اب تبدیلی آگئی ہے۔ اب زیادہ اموات چھوٹ کی بیماریوں کے بجائے ذیابیطس، دل کے امراض اور کینسر سے ہوتی ہیں۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ آنے والے دنوں میں غیر متعدد بیماریوں سے متاثرہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا اور اسی لیے اس بات کی اشہد ضرورت ہے کہ اس صورت حال پر ملک گیر اور عالم گیر سطل پر توجہ دی جائے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس سے پہلے یہ بیماریاں عمر رسیدہ لوگوں کو ہوتی تھیں۔ مگر آج یہ بیماریاں نوجوانوں اور نسبتاً کم عمر بالغوں میں بڑھ رہی ہیں جو بہت تشویش ناک ہے۔ تشویش کا ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ یہ بیماریاں صرف زیادہ آمدی والے لوگوں تک ہی محدود نہیں ہیں بلکہ کم آمدی والے لوگ (خاص طور پر شہری علاقوں کے) بھی ان بیماریوں کی زد میں ہیں۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ ان میں سے بیشتر بیماریاں غیر صحت مندرجہ اور جسمانی کام نہ کرنے کے سبب ہوتی ہیں۔

اسی لیے صحت سے متعلق اعلاء تین ادارے، عالمی صحت تنظیم (World Health Organisation) نے خوارک، جسمانی کام اور صحت سے متعلق ایک عالمی حکمت عملی کو فروغ دینے کے لیے سفارش کی ہے۔ حکومت ہند بھی صحت کے بڑھتے ہوئے

صحت کے بڑھتے ہوئے مسائل اور ان سے متعلق امور کے بارے میں اتنی ہی فکر مند ہے۔ لہذا جب یہ بیماریاں بڑھتی ہیں تو حکومت پر (i) متاثرہ لوگوں کو صحت خدمات فراہم کرنے، (ii) ان لوگوں، ان کے خاندان اور پوری قوم پر پڑنے والے اخراجات (کیوں کہ ایسے لوگوں کی صحت کی دیکھ بھال اور علاج کی سہولتیں فراہم کرنا حکومت کی ذمے داری ہے) (iii) ایسے لوگوں کی زندگی کے معیار پر پڑنے والے اثرات اور (iv) لوگوں کی صحت اور ان کے کام کرنے کی عمومی صلاحیت کو برقرار رکھنے اور فروغ دینے کے بارے میں زبردست دباؤ پڑتا ہے۔

15.2 صحت منداشناص (Healthy persons)

صحت مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو جسمانی طور پر ٹھیک اور فعال ہوں، خوش نظر آتے ہوں، جن میں جراثیم سے مقابلہ کی مناسب صلاحیت ہو جو جلد تھکتے نہ ہوں۔ تحقیق کے ذریعے صحت مند خواراک، جسمانی سرگرمیوں، صحت عامہ سے متعلق سرکاری کوششوں کے فوائد سامنے آچکے ہیں۔ غیر صحت بخش خواراک میں عام طور پر زیادہ تو ادائی والی غذا میں شامل ہیں جن میں شکر اور چربی کی کثرت ہوتی ہے۔ ان غذاؤں میں نمک بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایسی غذا میں جب جسم کی ضرورت سے زیادہ مقدار میں استعمال کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی جب ہر عمر کے لوگوں، خاص طور پر نوابغ اور بالغ لوگ جسمانی محنت کم کرتے ہیں تو غیر متعذر یہ باریوں کے بڑھنے کا اندازہ بڑھ جاتا ہے۔ خواراک اور جسمانی محنت دونوں الگ الگ اور ایک ساتھ بھی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جسمانی حرکت، جسمانی اور ذہنی صحت میں بہتری لانے کا بنیادی وسیلہ ہے۔ یہ باریوں سے بچاؤ اور لوگوں کو صحت کے معاملات سے باخبر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انھیں ایک بہتر طرزِ زندگی اختیار کرنے کی ترغیب دی جائے۔ نوجوانوں اور بالغوں میں امراض قلب اور ہائپر ٹینشن جیسی یہ باریاں ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہیں جو زیادہ وزن والے یا موٹے (Obese) ہوتے ہیں۔ عام طور پر ماہرین صحت تغذیاتی صورت حال اور غذاؤں سے ہونے والے نقصانات کا پتا لگانے کے لیے جسمانی پیمائش کے اشاریوں (Anthropometric Indicators) کا استعمال کرتے ہیں۔

328

جسمانی وزن کا اشاریہ (BMI) (Body Mass Index) ایک عام سا اشاریہ ہے جسے عام طور پر بالغ لوگوں میں کم وزن والے، زیادہ وزن والے اور موٹے لوگوں کی زمرة بندی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس اشاریے سے بنیادی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کا وزن اس کے قد (یعنی وزن کے مطابق قدر) کے مناسب ہے یا نہیں۔ اس کی تعریف اب وزن (کلوگرام میں) کو قد (میٹر میں) کے مربع سے تقسیم کر کے مقرر کی جاتی ہے (m^2). مثال کے طور پر کوئی بالغ فرد جس کا وزن 70 کلوگرام اور قد 1.75 میٹر ہے اس کا بی ایم آئی (BMI) 22.9 ہوگا۔ اس طرح:

$$\text{بی ایم آئی} = \frac{70 \text{ کلوگرام}}{(1.75)^2}$$

عالمی صحت تنظیم نے یہ طے کرنے کے لیے کوئی شخص قلیل الوزن (Underweight)، زائد الوزن (Overweight) یعنی موٹا (Obese) یا معمول کے مطابق (Normal) ہے، چند امتیازی حدود (Cut off Points) مقرر کیے ہیں (جیسا

کہ جدول 1 میں دکھا گیا گیا ہے)۔ اس طرح، اگر کسی شخص کا BMI 18.5 سے کم ہے تو وہ شخص قلیل الوزن (Underweight) ہو گا۔ اسی طرح معمول کے وزن، زائد الوزن یا موٹے تینوں زمروں کے لوگوں کے لیے امتیازی حدود اور ان کے ذمیلی زمرے دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی کم سے کم قدر (Minimum Value) اور زیادہ سے زیادہ قدر (Maximum Value) مقرر ہے۔ BMI زیادہ ہے تو صحت کو خطرہ بھی زیادہ ہو گا کیونکہ جسم میں ایسی کمی متعلقہ تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں جو صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ان تبدیلیوں میں چربی یعنی ایڈیپوز ٹسٹو (Adipose tissue) کی کثرت، گلوکوز کی سطح میں کمی (Blood Cholesterol) اور بلڈ کولیسترول (Decreased glucose tolerance) میں آنے والی تبدیلیاں شامل ہیں۔

جدول 1: جسمانی وزن کے اشارے (BMI) کے مطابق کم وزن، زائد الوزن اور موٹے بالغ لوگوں کی بین الاقوامی زمرہ بندی

درجہ بندی	قلیل الوزن	Clauder's
جسمانی وزن کا اشارہ (kg/m ²) (BMI)	زنیادہ امتیازی حدود	زمینی امتیازی حدود
فریڈریکس	<18.50	<18.50
حد درجہ بلاپن	<16.00	<16.00
اوسط درجہ بلاپن	16.00-16.99	16.00-16.99
معمولی درجہ بلاپن	17.00-18.49	17.00-18.49
مجموعی کا وزن	18.50-22.99	18.50-24.99
زائد وزن	23.00-24.99	
موٹا پے سے قبل	≥25.00	≥25.00
موٹا پا	25.00-27.49	25.00-29.99
موٹا پا درجہ I	27.50-29.99	
موٹا پا درجہ II	≥30.00	≥30.00
موٹا پا درجہ III	30.00-32.49	30.00-34-99
	32.50-34.99	
	35.00-37.49	35.00-39.99
	37.50-39.99	
	≥40.00	≥40.00

ماغذہ: عالمی صحت تنظیم 1995، عالمی صحت تنظیم 2000 اور عالمی صحت تنظیم 2004 سے مأخوذه

جسمانی وزن کے اشارے کی قدریں (Values) عمر سے متعلق نہیں ہوتیں اور دونوں صنفوں (مرد، عورت) کے لیے یکساں ہوتی ہیں۔ لیکن جینیاتی، نسلی اور قبائلی عوامل کی بنیاد پر مختلف آبادیوں میں ان قدریوں میں تھوڑا فرق بھی ممکن ہے۔ مختلف نسلوں کے لوگوں کی تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ دیگر نسلوں کے مقابلے ایشیائی لوگوں کو دیگر لوگوں کی BMI کے لحاظ سے زیادہ خطرہ لاحق رہتا ہے۔ اسی لیے عالی صحت تنظیم نے درج بالا زمروں کو مزید ذیلی زمروں میں تقسیم کرنے کی ضرورت محسوس کی (جیسا کہ درج بالا جدول کے تیرے کالم میں دکھایا گیا ہے)۔

اساتذہ کے لیے ہدایات: طلباء کو بہتر طور پر سمجھانے کے لیے اساتذہ خود بھی اس تصور سے واقف ہوں (براء کرم اس باب کے آخر میں اساتذہ سے متعلق ہدایات کا مطالعہ کیجیے)۔

بہتر صحت اور مطلوبہ جسمانی وزن برقرار رکھنے کے لیے، ماہرین صحت نے مختلف لوگوں اور افراد کے لیے درج ذیل سفارشات کی ہیں۔ ان سفارشات پر عمل کر کے تو انائی کا توازن اور صحت مندوں حاصل کیا جاسکتا ہے۔

صحت کو فروغ دینے والی غذا سے متعلق کیجیے اور مت کیجیے

کیجیے

330

- چپلوں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کیجیے۔
- پھلیوں، ثابت انماں اور گرگی دار میوں (Nuts) کا استعمال بڑھائیے۔
- تو انائی کے استعمال اور تو انائی کے خرچ میں توازن رکھیے۔
- آئیوڈین ملائمک استعمال کیجیے۔
- خوب پانی کیجیے۔

مت کیجیے

- بہت زیادہ چربی/روغن (مشلاً ڈبل روٹی پر مکھن اور پر اٹھوں پر گھی وغیرہ) کا استعمال نہ کیجیے۔ تی ہوئی غذا کیسیں (جیسے کپورے، پوریاں، دانے دار میوے اور سموے) وغیرہ استعمال نہ کیجیے۔
- بہت زیادہ سیر اب چربیوں جو کمرے کے درجہ حرارت پر جنم جائیں (Trans fats) (وناپتی) کا استعمال نہ کیجیے۔
- بہت زیادہ نمک (سوزیم) کا استعمال نہ کیجیے، چاہے ان کا ذریعہ کوئی بھی ہو، خاص طور پر تیار غذا کیسیں (Processed foods) مشلاً ویفر، کیچ اپ، چمنی ہسکٹ، اچار اور پاپڑ وغیرہ۔
- کپی ہوئی غذا کوں یا سلاڈ پر نمک مت چھڑ کیے۔
- مٹھائیوں، چاکلیٹ اور ٹھنڈے مشروبات (Soft drinks) زیادہ استعمال نہ کیجیے۔

15.3 تن درستی (Fitness)

صحت کے لیے صرف مناسب اور متوازن غذا کیمی، ہی نہیں بلکہ جسمانی سرگرمی اور تن درستی بھی ضروری ہے۔ ہم باب III کی اکائی: حصہ I میں خود کو سمجھنا: نبلوغت، کے تحت تن درستی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں ہماری توجہ سن بلوغ (Adulthood) کے حوالے سے تن درستی پر مرکوز ہو گئی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ جسم میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کے نتیجے میں کچھ اور تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں جیسے صلاحیتوں اور جسم کی فعالیت میں کمی۔

تن درستی اور زندگی کا ایک خاص روپ باقی رکھنے کے لیے ورزش اور جسمانی محنت بے انتہا ضروری ہیں۔ باقاعدہ ورزش سے زائد کیلو یا خرچ ہو جاتی ہیں اور اس طرح زائد کیلو یوں کے چربی میں تبدیل ہو جانے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ باقاعدہ ورزش سے انسان تن درست رہتا ہے۔ جو لوگ باقاعدہ ورزش کرتے ہیں انھیں ایک عافیت کا احساس رہتا ہے اور انھیں بہتر نیند آتی ہے۔ ورزش سے دل اور پھیپھڑے بھی زیادہ موثر طور پر کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے دورانِ خون اور تنفس بھی صحیح رہتا ہے۔ ہفتے میں کم از کم تین بار 20 منٹ کی ورزش بہت مفید ہے۔ تھوڑے عمر سیدہ لوگوں کو بھی باقاعدہ ورزش کرنی چاہیے۔ اس سے مختلف یماریوں جیسے موٹاپے، ہائپر ٹینشن اور ذیا بیطس وغیرہ کو روکا اور قابو میں رکھا جاسکتا ہے۔ نوجوانوں اور بالنوں کو حفظ مالقدم کے طور پر صحت کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ بعد میں ان یماریوں سے بچا جاسکے۔

331

سن بلوغ میں ورزش کے فائدے (Benefits of exercise in adulthood)

(i) ورزش اور بیماری: ورزش سے جسمانی ترکیب (Body composition) میں بہتری آتی ہے۔ جس سے استحالة (Metabolism) اور دل اور پھیپھڑوں کی صحت ٹھیک رہتی ہے، اور اس طرح شدید اور موزی یماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ورزش سے قوت برداشت، عضلات کے وزن اور طاقت، چستی اور چپک میں بہتری آتی ہے اور اس طرح معدواری کم ہوتی ہے۔ ورزش سے عام یماریوں کی روک تھام اور ان کے علاج میں مدد ملتی ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسی کئی یماریاں جن کا علاج مشکل ہوتا ہے مثلاً افسردگی (Depression)، بے خوابی (Insomnia)، بطلان جوع (Anorexia)، قبض (Constipation) اور ذہنی صلاحیتوں میں کمی (Cognitive impairment) جو اکثر عمر بڑھنے کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں ورزش سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔

باقاعدگی کے ساتھ ورزش کرنے سے کچھ خصوصی نتائج بھی حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً:

- ورزش سے، معدواری کو 15 سال تک موخر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جو لوگ بالکل ورزش نہیں کرتے وہ بھی جب تھوڑی ورزش شروع کر دیتے ہیں تو ان کو خاطر خواہ فوائد ضرور حاصل ہوتے ہیں۔
- جسم کے نیچے حصے کی ورزش (Lower body exercises) سے عمر بڑھنے پر توازن برقرار کرنے میں مدد ملتی ہے۔
- جو لوگ کثیر الوزن یا موٹے ہیں ان کو وزن گھٹانے میں مدد ملتی ہے۔

- ورزش سے جسم کا مطلوب وزن برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔
- اس سے بلڈشوگر کی سطح اور بلڈ پریشر پر قابو رکھنے میں مدد ملتی ہے۔
- ورزش سے ہڈیوں کی معدنیاتی کثافت (Bone mineral density) برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے جس سے خاص طور سے بڑے لوگوں میں ہڈی ٹوٹنے اور معدودی کا خطروہ کم ہو جاتا ہے۔
- بازوؤں اور تنالوں کی عضلاتی طاقت بڑھانے میں مدد ملتی ہے (چند ماہ کی مشق سے ہمارے زیریں اعضا کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے)۔

ورزشوں کو تین زمروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

- سانس بحال کرنے والی ایریوبک (Aerobic) ورزش
- جسمانی طاقت بڑھانے والی رمزاجی (Resistance) ورزش
- جسم میں توازن اور چلک بڑھانے والی (Flexibility) ورزش

ان ورزشوں کے فوائد کو ذیل کے خانے میں اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

ورزش رسمگری	فائدہ
سانس بحال کرنے والی ایریوبک ورزش میں تیزی سے چلنا، سائیکلنگ، تیرا کی، فٹ بال، ٹینس، بیڈمنن وغیرہ شامل ہیں۔	ان سے قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، تن درستی میں بہتری آتی ہے، وزن کو کم یا قابو میں کرنے میں مدد ملتی ہے۔ دل اور پھیپھروں کے افعال میں بہتری آتی ہے، بلڈشوگر قابو میں رہتی ہے، قبضہ دور ہوتا ہے، نیند میں بہتری آتی ہے، ذہنی کیفیات ثابت رہتی ہے۔ چند ہفتوں کی باقاعدہ، کافی سخت ورزش یعنی ہر روز 30 منٹ کی ایریوبک ورزش سے سدھار نظر آنے لگتا ہے۔ لیکن ورزش کو چھوڑ دینے پر تن درستی کی سطح میں گراوٹ آ جاتی ہے۔
جسمانی طاقت بڑھانے رمزاجی ورزش میں ویٹ لفگ، دھکلینا، قلا بازی کھانا، اور جم کے لیے بنائے گئے مخصوص آلات کے ذریعے کی جانے والی ورزشیں شامل ہیں۔	ان سے عضلات کی طاقت اور ہڈیوں کے وزن (Mass) میں اضافہ ہوتا ہے، جسم کے مضبوط ہونے میں مدد ملتی ہے اور جسم کی بنادٹ میں سدھار آتا ہے۔
توازن / چلک بڑھانے والی ورزش میں جسم کا پھیلانا، ڈھیلا چھوڑنا، جھکانا جیسے یوگ اور سٹریٹھیوں پر چڑھنا شامل ہے۔	ان سے عضلات اور جوڑوں کو آسانی سے ہر طرح کی حرکت کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ان سے جسم کی سختی بھی کم ہوتی ہے۔ جوڑوں میں چلک آتی ہے۔ توازن، چلک اور حرکت کرنے کی اہلیت برقرار رہتی ہے۔

سرگرمی 1

کسی ہیلتھ کلب، یا یوگ سینٹر یا جم (Gym) جائیے اور وہاں کے ٹیچر رٹریز یا ورزش کرنے والوں سے ان ورزشوں کے فوائد معلوم کیجیے۔

ہر دن میں 1440 منٹ ہوتے ہیں۔ ان میں سے صرف 30 منٹ جسمانی کام ہر سرگرمی کے لیے فارغ کر لیجیے۔ سن بلوغ کو پہنچ کر سلامتی کو پہنچی بنانے کے لیے ورزش کو پہنچ کر زندگی کا معمول بن لیجیے۔

(ii) ورزش، ہنی صحت و سلامتی: جسمانی صحت کے فوائد کے علاوہ، ہنی صحت و سلامتی کے لیے بھی ورزش کے فائدے مند ہونے کے سائنسی ثبوت موجود ہیں اور اس کے بارے میں واقفیت بھی بڑھ رہی ہے۔ امریکا کی ڈیوک یونیورسٹی کے سائنس دانوں نے چار ماہ تک افسردگی (Depression) کے مريضوں کا مطالعہ کیا اور پایا کہ ہفتے میں تین بار 30 منٹ تک ورزش کر کے ان میں سے 60 فیصد لوگوں نے بغیر کسی دوا کے افسردگی پر قابو پالیا۔ ایک اور تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ آٹھ آٹھ منٹ کی مختصر ورزش (Work out)، غم زدگی، ٹپینش اور غصے کو کم کرنے میں مددگار ہوتی ہے اور صحت مند لوگوں میں بیماریوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت بڑھاتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ورزش سے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اور الجھن اور تناؤ کم ہوتے ہیں جس سے نفسیاتی صحت و سلامتی میں مدد ملتی ہے۔ اس طرح ورزش کو ہم سلامتی کا احساس پیدا کرنے کی سرگرمی قرار دے سکتے ہیں کیوں کہ ورزش جسمانی اور ہنی بیماریوں سے بچاتی ہے۔

333

ماہرین کا کہنا ہے کہ ورزش کو ایک سزا سمجھ لینا اس کے فوائد کو روک دینا ہے۔ اس کے برخلاف ورزش سے لطف انداز ہونے کی ضرورت ہے۔ شروع میں ورزش سے جود دیا جے چینی محسوس ہوتی ہے وہ رفتہ رفتہ غائب ہو جاتی ہے۔ ہندوستان میں یوگ اور دھیان کا استعمال ہنی صحت و سلامتی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا رہا ہے۔ یوگ کے آسنون سے جسم میں چک پیدا ہوتی ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ یوگ سے ذیابتیں اور ہائی بلڈ پریشر چیزیں بیماریوں میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔

ورزش کے دوران اور ورزش کے بعد دماغ سے کچھ مادوں (Substances) کا اخراج ہوتا ہے جنہیں اینڈوفین (Endorphins) کہا جاتا ہے۔ یہ جسم کے قدرتی درد کش (Pain killer) مادے ہیں اور ان سے خوشی اور سلامتی کے احساسات میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج کا طرز زندگی، خاص طور پر شہری علاقوں اور بڑے بڑے شہروں میں، بہت تیز رفتار اور بہت تناؤ پیدا کرنے والا ہے۔ اس لیے یہ بات بہت ہمیں ہے کہ ہر شخص اپنی ہنی اور جسمانی صحت کا خاص خیال رکھے۔

2002 میں عالمی صحت تنظیم (WHO) نے جسمانی سرگرمی کو عالمی یوم صحت کا موضوع قرار دیا تھا۔ اسی وقت سے 6 اپریل کو جسمانی سرگرمی کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ یہ عالمی سطح کی ان کوششوں کی ایک مثال ہے جن کا مقصد پوری دنیا میں جسمانی سرگرمی کے ذریعے صحت کو فروغ دینا ہے۔

15.4 سلامتی کیا ہے؟ (What is wellness?)

سلامتی بھرپور خیر و عافیت (Well-being) کی حالت ہے۔ اس کا مطلب زندگی کے تمام پہلوؤں میں توازن اور ہم آہنگی حاصل

کرنا ہے۔ سلامتی، جسمانی، سماجی، جذباتی، عقلی، روحانی اور ماحولیاتی صحت کی یک جائی سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ سلامتی، سرگرم کوششوں اور احتیاطی تدبیروں پر بنی طرز عمل ہے جس کا مقصد کام کرنے کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ یہ ایک خاص تصور ہے جو صحت و عافیت حاصل کرنے میں آسانیاں پیدا کرنے پر زور دیتا ہے۔ یہ تصور انسان کی قوتوں کو مسائل، ضروریات یا مکروہیوں پر مرکوز کرنے کے بجائے ان کو صحت کے لیے وسائل کی حیثیت سے استعمال کرنے پر زور دیتا ہے۔ سلامتی کو فروع دینے کا مطلب یہاں سے بچاؤ یا ڈاکٹروں اور دواؤں پر انحصار سے نجات پانا ہے۔

سلامتی کا طریق کا صحت کے لیے کس طرح مددگار ہے؟ (How does the wellness approach help?)

سلامتی، یہاں، معدودی، بے چینی اور نجیدگی کو کم کر کے زندگی کے معیار میں بہتری لاتی ہے۔ یہ ان ثابت انسانی قوتوں کو فروع دینے کے لیے بھی بہت اہم ہے جو نوازشو و نمنا، ہم آہنگی اور خیر و عافیت کو بڑھا دینے میں مدد کرتی ہیں۔

سلامتی کے طریق کا ریٹن کار میں اولین ضرورت یہ ہے کہ فرد اپنی زندگی کے معیار کو بہتر کرنے کی ذمے داری خود قبول کرے۔ یہ صحت مند طرز زندگی اپنانے کے ایک باشعور فیصلے سے شروع ہوتی ہے۔ صحت مند طرز زندگی ہی عافیت اور آسودگی کا ضمن ہے۔

سلامتی ایک انتخاب ہے..... بہترین صحت حاصل کرنے کا فیصلہ۔


سلامتی ایک طرز زندگی ہے..... ایسا طرز زندگی ہے جو فرد کو مقاصد کے حصول اور بالوقت صلاحیتوں کو بروئے کار لانے میں مدد دیتا ہے۔

سلامتی ایک عمل (Process) ہے..... فیصلوں اور روؤیوں کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو صحت و عافیت اور خوشی کی طرف لے جاتی ہے۔

سلامتی ایک جامع تصور ہے..... یہ جسم، ذہن اور روح کی ہم آہنگی پر اس خیال کے ساتھ مبنی ہے کہ ہمارے عقائد، خیالات، احساسات اور کام ہر لحاظ سے ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

سلامتی کا مطلب اپنے احوال اور حالات کو خوش دلی سے قول کرنا ہے۔ یہ اپنی تمام کمزوریوں، قوتوں اور تمام چیلنجوں کو قبول کرنے کا نام ہے۔

سلامتی کے جامع طریق کا رکونیچے دی گئی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ شکل ایک صحت مند طرز زندگی کے تمام پہلوؤں یا خاص دائرے کو واضح کرتی ہے۔



شکل: 1 صحت مند طرز زندگی کے مختلف پہلو

سلامتی کو سمجھنے، اسے عمل میں لانے اور فروغ دینے کے لیے رہنمای اصول تیار کرنے کی کوششیں تحقیق کا ایک اہم موضوع بن گئی ہیں۔ مختلف مطالعوں سے پتا چلا ہے کہ سلامتی اور خیر و عافیت کے طاظے سے جو لوگ اعلاء درجے کے ہوتے ہیں ان میں درج ذیل خصوصیات مشترک ہوتی ہیں۔

- زیادہ عزتِ نفس، ثابت نقطہ نظر اور مقصدیت کا احساس
- شخصی ذمے داری اور جواب دہی کا زبردست احساس
- اچھی جس مزاج
- دوسروں کے لیے فکر مندی
- ماحول کا احترام
- جسمانی طور پر درست اور جامع صحت مند طرز زندگی
- نشے کی لخت نہ ہونا
- زندگی کے چیزوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت
- مسلسل سیکھتے رہنے کی اہلیت
- محبت کرنے اور پروردش کرنے کی صلاحیت
- مؤثر اظہار کی اہلیت

(Dimensions of wellness)

سلامتی کی جہات

سلامتی پر بنی طرز زندگی کا تعلق اچھی جسمانی صحت، جذباتی استحکام، خاندان اور دوستوں کے ساتھ صحت مندانہ روابط، پیداواری صلاحیت اور اپنے کام سے مطمئن ہونے سے ہے۔

سامجی پہلو (Social Aspect): اس پہلو میں لوگوں کے ساتھ باہمی اخصار، دوست بنانے اور ان کے ساتھ با معنی، اطمینان بخش، مسرت افزای اور مضبوط تعلقات استوار کو اہمیت دی جاتی ہے۔ سماجی سلامتی اس احساس کو فروغ دیتی ہے کہ ہم صرف اپنے بارے میں سوچنے کے بجائے لوگوں کی فلاج و بہبود کے لیے کام کریں۔ اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ نکراو کی حالت میں رہنے کے بجائے دوسروں اور اپنے ماحول سے اتحاد اور ہم آہنگی کے ساتھ رہنا بہتر ہے۔

جسمانی پہلو (Physical Aspect): اس کا مطلب ایک ایسے طرز زندگی کا با شعور انتخاب ہے جو مناسب جسمانی سرگرمی، متوازن غذا اور ایک بہتر تنفسی پر مشتمل ہو، جس سے بھرپور جسمانی صحت و عافیت حاصل کرنے اور اسے برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ ایسا صحت مند طرز زندگی اختیار کرنا، جو عمر کے موجودہ حصے اور آنے والے دنوں میں صحت اور زندگی کا معیار بہتر رکھنے میں مددگار ہو کر حال اور مستقبل دونوں میں خوش گوار بنا دے، بہت اہم ہے۔

ذہنی پہلو (Intellectual Aspect): اس کا تعلق فرد کی تخلیقی اور ذہنی سرگرمیوں سے ہے۔ ایک فعال ذہن مجموعی سلامتی کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ نئے خیالات کے لیے ذہن کا کھلا رہنا، تنقیدی غور و فکر، تخلیقی صلاحیت اور تجویز اور نئی مہارتوں پر عبور حاصل کرنے کی آمادگی ذہنی سلامتی کی بنیاد ہیں۔ ایک ایسا شخص جو ذہنی طور پر صحت مند ہو اپنی معلومات و سیع تر کرنے کے لیے تمام دست یاب وسائل کا استعمال کرتا ہے اور دیگر لوگوں کی معاونت سے اپنی مہارتوں کو فروغ دیتا ہے۔ بہتر کارکردگی، مسائل حل کرنے کی بہتر صلاحیت، زیادہ علم اور زندگی میں کامیابی کے بہتر موقع اس کے کچھ فوائد ہیں۔

پیشہ و رانہ پہلو (Occupational Aspect): پیشہ و رانہ پہلو کا تعلق اس تشغیل سے ہے جو کسی شخص کو کام کرنے اور کام کے ذریعے فروغ پانے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس تشغیل کا تعلق کام کے بارے میں کسی شخص کے روپیوں، کام کی جہت، مقاصد اور کام یا بی کے احساس سے ہوتا ہے۔ زندگی میں ذاتی اطمینان اور فروغ حاصل کرنے کے لیے کام کے ذریعے ذاتی اطمینان کا حصول ضروری ہے۔ اگر آج Employers اپنے کارکنوں کی صحت، عافیت اور پیداواری صلاحیت میں بہتری لانے کو یقین بنائیں تو اس سے کام کی جگہ پر سلامتی کے ماحول کو فروغ ملتا ہے۔

جنرباتی پہلو (Emotional Aspect): جنرباتی پہلو کا تعلق اس بات سے ہے کہ کوئی شخص اپنے احساسات کے بارے میں کتنا واقف ہے اور وہ انھیں کتنا قابل قبول سمجھتا ہے۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کوئی شخص اپنے اور زندگی کے بارے میں کس حد تک ثابت اور پر جوش انداز میں سوچتا ہے، اس میں (ثبت اور متفق دونوں) اپنے جذبات کو برتنے اور ان کا اظہار کرنے کی کتنی صلاحیت ہے، وہ تناوے سے کس طرح مقابلہ کر سکتا ہے اور وہ اپنی حدود کا کتنی حقیقت پسندی سے اندازہ کر سکتا ہے۔ جنرباتی سلامتی، لوگوں کو اپنے تمام جذبات کو جانے سمجھنے، برتنے اور اظہار دینے کا موقع دیتی ہے۔ خاص طور پر سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد دل کی بیماریوں یا کینسر جیسی بیماریوں کے اثرات ذہنی صحت پر بھی پڑتے ہیں۔

تناوہ مختلف طریقوں سے فرد کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ چڑچاہٹ، بے چینی، سر درد، دل کی بیماری اور شاید کینسر کا بھی سبب ہو سکتا ہے۔ تناوہ سے پوری طرح نجات نہیں پائی جاسکتی۔ البتہ یہ ضرور جانا جاسکتا ہے کہ ہم تناوہ کا مقابلہ کس طرح کریں (اسی باب کی شکل 2 ملاحظہ کیجیے)۔ صحت کے فروغ کی کوششوں سے مجموعی صحت و عافیت میں ثابت سدھار آ سکتا ہے۔

روحانی پہلو (Spiritual Aspect): اس کا تعلق انسانی زندگی بلکہ تمام تر انسانی وجود کے معنی اور مقصد سمجھنے کی مستقل کوششوں سے ہے۔ عام طور پر روحانیت کا تعلق بہتر ذہنی صحت اور زندگی کے بہتر معیار سے ہوتا ہے۔ اس سے جسمانی صحت اور طبی معاملات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ روحانیت جسمانی صحت سے متعلق بہت سے مسائل سے مقابلہ کرنے میں بھی مدد کرتی ہے۔

ماحولیاتی پہلو (Environmental Aspect): ماحولیاتی پہلو کا تعلق انسانوں اور ماحول کے درمیان تفاہل اور ان کے باہمی انحراف سے ہے۔ ہماری انفرادی خیر و عافیت میں ماحول کے اہم کردار اور ماحول کو متاثر کرنے والی تمام انسانی سرگرمیوں کے بارے میں واقفیت بہت ضروری ہے۔ ماحولیاتی تباہی (Environmental degradation) اور انسانوں کی لائی ہوئی تباہیوں نے قدرتی وسائل کی دست یابی کو خطرے میں ڈال دیا ہے جس کے نتیجے میں ایسی مشکلات پیش آ رہی ہیں جو انسانی زندگی کے

معیار میں گراوٹ کا سبب بن رہی ہیں۔

مالي پہلو (Financial Aspect): مالي پہلو کا تعقیل باشعور فیصلہ کرنے اور اس بات کے سکھنے سے ہے کہ ہم مالی وسائل کا بندوبست بچت، سرمایہ کاری اور مستقبل کے لیے ان کی بندی کتنی سمجھ بو جھ کے ساتھ کرتے ہیں۔ پیسے پر منی کسی سماج میں (جہاں روپے پیسے کا لین دین بڑے پیانے پر ہوتا ہے) صحبت و عافیت کے حصول کے لیے کافی مالی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر شخص کو کڑی محنت کرنی ہوتی ہے اور نہ صرف چھوٹے پیانے (Micro-level) یعنی فرد اور خاندان کی سطح پر بلکہ بڑے پیانے (Macro-level) سماجی، علاقائی، ریاستی اور قومی سطح پر بھی کافی مالی وسائل حاصل کرنے کے لیے پیداواریت پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔

15.5 تناوُ اور اس کا مقابلہ (Stress and Coping With Stress)


ہماری روزمرہ کی زندگی میں تناوَ نگزیر ہے اور ہماری شخصی اور پیشہ و رانہ زندگی میں اس کے ثابت اور منفی دونوں پہلو ہو سکتے ہیں۔ کچھ تناوُ، بہتر کار کر دگی اور زیادہ باصلاحیت ہونے کی تحریک اور تو ادائی فراہم کرتے ہیں۔ تناوُ کا اثر ثابت ہوتا کارگر تناوُ یا ایوسٹریس (Eustress) کہا جاتا ہے اور اگر دباؤ کا اثر جسمانی اور ذہنی صحبت اور کار کر دگی پر منفی ہو تو اس کو منفی تناوُ (Distress) کہتے ہیں۔ کوئی بھی شخص درج ذیل سرگرمی کے ذریعے اپنے تناوُ کا اندازہ کر سکتا ہے۔

سرگرمی 2

اپنے آپ سے درج ذیل سوالات کیجیے:

- کیا میں اکثر خود کو چڑھا، بھجن میں بیٹلا اور افسردہ محسوس کرتا رکرتی ہوں؟
- کیا مجھے بغیر کسی معقول سبب کے لئے محسوس ہوتی ہے؟
- کیا میں بہت زیادہ فکر مندر ہتھ رہتی ہوں اور اسی فکر مندر کے سبب، تناوُ کا شکار ہو جاتا رجاتی ہوں اور نتیجتاً سو نیں پاتا رپاتی؟
- کیا میں اکثر اکتا ہوں (Fed up) اور بہت بوجھل پن (Over burdened) محسوس کرتا رکرتی ہوں۔ اگر ان میں سے کسی ایک یا زیادہ سوالوں کے جواب اثبات میں ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ تناوُ میں ہیں۔ طویل مدت تناوُ (پرانا باؤ) جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس سے ہائی بلڈ پریشر، موٹاپا، دل کا دورہ، ہوتی مدافعت کی کمی وغیرہ ہو سکتے ہے۔

ہر انسان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، صحبت مند ہو یا صحبت کی خرابی کا شکار، تناوُ سے مقابلہ کرنے سے متعلق معلومات سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے اور اپنی سلامتی اور زندگی کے معیار کو بہتر کر سکتا ہے۔ تناوُ سے مقابلہ کرنے کے مختلف طریقے میں جن کو شکل 2 میں دکھایا گیا ہے۔ ایک یا زیادہ طریقے استعمال کرنے کا فیصلہ فرد کی اپنی پسند کا معاملہ ہے۔



شکل 2: تناوے سے مقابلہ کرنے کے آسان طریقے

338

تحقیقی مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ خود اپنا خیال رکھتے ہیں اور اپنے طرز زندگی اور رویوں کی صحیح ترتیب بنالیتے ہیں وہ زیادہ صحت مند اور زیادہ پیداواری صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں، کام سے کم غیر حاضر ہوتے ہیں اور طبی امداد کی بھی ان کو کم ضرورت پڑتی ہے۔ اچھی صحت کے فروغ اور زندگی کے ہبھت معیار کے لیے صرف طبی نگہ داشت ہی کافی نہیں بلکہ اس کے لیے خود اپنی مسلسل نگہ داشت بھی ضروری ہے۔

BMI (جسمانی وزن کے اشاریے) کی درجہ بندی کے بارے میں اساتذہ کے لیے ہدایات حالیہ برسوں میں اس بات پر بہت بحث ہوتی رہی ہے کہ کیا مختلف نسلی گروپوں کے لیے مختلف BMI کے امتیازی حدود (Cut-off) points کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے کیوں کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ BMI جسمانی چربی کے فی صد تناسب اور جسمانی چربی کی تقسیم کے درمیان تعلق کے لحاظ سے مختلف آبادیوں میں بہت فرق پایا جاتا ہے اور اس لیے $25\text{kg}/\text{m}^2$ کی امتیازی حد کے نیچے صحت کے لیے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اس حالت کو عالمی صحت تنظیم کی موجودہ سمرہ بندی میں زائد اوزن قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایشیائی اور پسیفیک (Pacific) ملکوں میں دو کوششیں BMI امتیازی حدود کی تشریح کے لیے کی جا چکی ہیں جن کے نتیجے میں مباحثت میں اضافہ ہوا۔ پھر ان مباحثت پر روشنی ڈالنے کے لیے عالمی صحت تنظیم نے ایشیائی آبادیوں میں BMI کے معاملے پر غور کرنے کے لیے ماہرین کی ایک کانفرنس منعقد کی (سنگاپور 11۔ 8 جولائی 2002)۔

عالی صحت تنظیم کی یہ کانفرنس اس نتیجے پر پہنچی کہ زائد وزن لوگوں کے لیے تاپ 2 ذیابیٹس اور دل کی بیماریوں کے زیادہ خطرے والے ایشیائی لوگوں کا تناوب عالی صحت تنظیم کی موجودہ امتیازی حد (25kg/m^2) سے کم BMI پر بھی اچھا خاصا ہے۔ پھر بھی، مشاہدے میں آئے ہوئے خطرے سے متعلق امتیازی حد 22kg/m^2 سے 25kg/m^2 تک ہو سکتی ہے اور زیادہ خطرے کے لیے یہ (26kg/m^2) سے (31kg/m^2) تک ہو سکتی ہے۔ اس کانفرنس نے سفارش کی کہ عالی صحت تنظیم کی موجودہ BMI امتیازی حدود (جدول 1) کی بین الاقوامی زمرہ بندی برقرار رونی چاہیے۔ لیکن $32.5, 27.5, 23$ kg/m² اور 37.5 kg/m² والی امتیازی حدود کا عوامی صحت اقدامات کے لیے بطور پوائنٹس کے اضافہ کر دیا جانا چاہیے۔ اس لیے سفارش کی گئی کہ دنیا کے تمام ملکوں کو چاہیے کہ وہ بین الاقوامی سطح موازنے میں آسانی پیدا کرنے کے پیش نظر پورٹنگ کے مقصد سے تمام زمرہوں ($18.5, 23, 25, 27.5, 30, 32.5$ kg/m²) اور کچھ آبادیوں کے لیے یہ 40kg/m^2 اور $35, 37.5$ کا استعمال کریں۔ احساس عافیت کے برقرار رکھنے کے بارے میں اس باب میں سن بلوغت کے دوران اچھی صحت کی اہمیت اور احساس عافیت برقرار رکھنے کے طریقوں کے بارے میں مناسب معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ کسی بھی بالغ فرد کے لیے مناسب مالی وسائل کا ہونا صحت و عافیت کا ایک ضروری حصہ ہے۔ پھر بھی، صرف پیسہ ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ پیسے کا استعمال اور اس کے استعمال کی منصوبہ بندی بھی اس ویلے سے استفادہ کے لیے مساوی طور پر فراہم ہے۔ یہ تمام مسائل اگلے باب 'مالی انتظام اور منصوبہ بندی' (Financial Management and Planning) میں زیر بحث آئیں گے۔

کلیدی اصطلاحات اور ان کے معنی

سلامتی (Wellness): سلامتی کا تعلق اچھی جسمانی صحت، جذباتی استحکام، خاندان کے افراد، دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ صحت مند رشتہوں، پیداواری صلاحیت اور کام کرنے کی جگہ سے متعلق اطمینان کے احساس سے ہے۔

امتیازی حدود: (Cut-off point): وہ اقدار جو وزن یا بلڈ کولیسٹرال یا بلڈ گلوكوز وغیرہ کی معمول کی سطحوں کی ریٹن کو ظاہر کرتی ہیں۔ کم سے کم نیچے اور زیادہ سے زیادہ اور پر کی قدر خلاف معمولی (Abnormal) ہوتی ہے۔ بے الفاظ دیگر ایسی قدریں خلاف معمول قدریوں کو معمول قدریوں سے الگ (Cut off) کر دیتی ہیں۔

گلوكوز کی برداشت (Glucose tolerance): انسولین کی مناسب مقدار پیدا کر کے گلوكوز کی کیشر مقدار نتیجتاً بلڈ کے گلوكوز کی کثرت کے تین جسم کے رد عمل کی اہمیت۔ انسولین گلوكوز کو جسم کے خلیوں میں داخل ہونے میں مدد کرتی ہے اور اس طرح خون میں گلوكوز کی سطح کم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں میں ذیابیٹس کا راجحان ہوتا ہے یا وہ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں ان میں گلوكوز کی برداشت بہت کم ہوتی ہے۔

سوالات برائے نظر ثانی

1۔ درج ذیل بیانات کے بارے میں بتائیے کہ یہ غلط ہیں یا صحیح

2۔ آپ کو جسمانی طور پر فعال ہونے کی صرف اسی وقت ضرورت ہے جب آپ کو وزن گھٹانا ہو۔

صحیح / غلط

3۔ جسمانی درستی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی جم کے ممبر ہوں، آپ کے پاس خصوصی ساز و سامان اور خصوصی لباس ہو۔

صحیح / غلط

4۔ روزانہ 30 منٹ کی ورزش کے بغیر تن درستی حاصل نہیں ہو سکتی۔

صحیح / غلط

5۔ اینڈورفین (Endorphins) وہ کیمیائی اشیا (Substances) ہیں جن کی وجہ سے انسان افسردہ

(Depressed) ہو جاتا ہے۔

صحیح / غلط

6۔ مشقیں

340

(a) اپنے اور دو بالغ افراد (جن میں ایک جوان اور ایک عمر سیدہ ہو) کے BMI معلوم کیجیے۔

(b) عمر سیدہ لوگوں کو ورزش کی ضرورت نہیں ہے، اس عنوان پر ایک گروپ مباحثہ کیجیے۔

(c) کلاس میں مختلف گروپوں کے درمیان درج ذیل بیان کی موافقت یا مخالفت میں ایک مباحثہ منعقد کیجیے: جب کوئی شخص تن درست ہو تو اس کو اپنی خوراک کے بارے میں کچھ فکر نہیں ہونی چاہیئے۔

(d) ذاتی ڈائری: کارگرتاؤ (Eustress) اور منفی تاؤ (Distress) کے درمیان فرق واضح کیجیے۔ ایک ہفتے تک اپنے کارگر تاؤ اور منفی تاؤ کی کیفیت کاریکارڈ تیار کیجیے۔

7۔ گروپ پروجیکٹ (Group projects)

1۔ تن درستی اور سلامتی کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے دلش پوسٹر تیار کیجیے۔

2۔ صحت مند اور تغذیہ بخش ہلکے ناشے (Snacks) تیار کرنے کی ترکیبیں حاصل کیجیے۔ ایسی ترکیبیں کا ایک کتابچہ تیار کیجیے اور اس کے بارے میں لوگوں سے بات چیت کیجیے۔

8۔ اسکول کے لیے پروجیکٹ (Projects for School)

1۔ ورزش کے فوائد کو فروغ دینے کے لیے ایک پیدل ریلی نکالیے۔

2۔ اسکول کے اساتذہ، والدین اور لوگوں کو تن درستی اور سلامتی کی اہمیت بتانے کے لیے طلباء کے پوسٹروں کی نمائش کا انعقاد کریں۔

3۔ اسکول میں عالمی یوم صحت، منانے کے لیے صحت اور سلامتی کے ہفتے کا اہتمام کیجیے۔